



میں نہ جنت میں جہانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر غریب لوگ تھے اور میں نہ جہنم میں جہانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں

ابن عباس اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرمایا: ”میں نہ جنت میں جہانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر غریب لوگ تھے اور میں نہ جہنم میں جہانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں“
[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ﷺ نہ جنت میں جہانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر غریب لوگ تھے کیونکہ غریبوں کے پاس ایسی کوئی شے ہوتی ہے نہ جس میں سرکش بناؤں یا لوگ پابند دین اور مطیع و فرمان بردار ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو شخص آیات میں غور و فکر کرتا ہے اس پر یہ آشکارا ہوتا ہے کہ صاحبِ حیثیت اور امیر لوگ ہی رسولوں کو جھٹلاتے ہیں جب کہ کمزور و ناتواں لوگ رسولوں کی پیروی کرتے ہیں اس لیے جنت میں زیادہ تر یہی لوگ ہوں گے۔ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غریب کو امیر پر فضیلت حاصل ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں غریب لوگ امیر لوگوں سے زیادہ ہیں اور اسی بات کی آپ ﷺ نے خبر دی ہے۔ ان کی غربت ان کے جنت میں جانے کا سبب نہیں اگرچہ اس کی وجہ سے ان کے حساب میں کچھ تخفیف ضرور ہوگی۔ اس کے بجائے وہ اپنی راستگی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ غریب آدمی اگر راست رو نہ ہو تو اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی ﷺ نہ بتایا کہ آپ ﷺ جہنم میں جہانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں نظر آئیں۔ کیونکہ عورتوں میں ایسی بری عادات ہوتی ہیں جن کا رنگ ان کی طبیعتوں پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ ان میں رچ بس جاتی ہیں۔ شوہر کی ناشکری اور کثرت کے ساتھ لعن طعن کرنا ان کی بری عادات میں سے ہے۔ اس لیے ان پر ضروری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں تاکہ جہنم سے محفوظ رہیں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3184>



النجات الخيرية
ALNAJAT CHARITY

